



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

Press Release
March 9, 2017
For immediate release

SECP committed to promoting modarabas
SECP Commissioner inaugurates Islamic Finance Center in Abbottabad

ISLAMABAD, March 9: Mr. Zafar Abdullah, Commissioner, SECP, inaugurated a new Islamic Finance Center for the promotion of Islamic investments at the Abbottabad Sarmayakari Markaz on Thursday. As envisioned by the SECP Chairman, this is an initiative of the NBFIs and Modaraba Association to expand the reach of regulated Islamic investments.

The SECP is committed to promoting modarabas as pure Islamic financial institutions. In consultation with stakeholders, the SECP has already reviewed the entire regulatory framework for modarabas and has approved the concept paper for structural reforms to implement the concept of modaraba in its true Islamic spirit, said Mr. Zafar Abdullah.

He highlighted the fact that to provide a substitute for exploitative financing in the informal sector, the SECP Chairman had advised the modaraba sector to set up a consumer-financing center in Rawalpindi to provide consumer finance to the public in a regulated form at affordable rates. The modaraba sector responded overwhelmingly, and four modarabas established the first Islamic Finance Center in Rawalpindi to provide Islamic finance to low-income customers for the purchase of motorcycles. Until February 28, 2017, the center had disbursed Rs14.97 million to 249 clients.

Speaking on the occasion, Mr. Ayaz Dawood, Chairman, NBFIs and Modaraba Association, informed the audience that initially, the center would focus on providing investor education and awareness about the NBFIs and the modaraba sector, expanding outreach of the association's members to the public in Abbottabad and its adjoining areas. Later, the center will provide the public affordable Sharia-compliant financing. He appreciated the vision of Zafar Hijazi, the SECP Chairman, who wants to extend the outreach of modarabas and broaden the range of Islamic financial products.

Mr. Basheer A. Chowdry, and Mr. Muhammad Shoaib Ibrahim also spoke on the occasion. Senior officials of SECP, CEOs of Modaraba companies and officials of various financial institutions attended the inauguration ceremony.

It may be noted that modaraba is the pioneering form of Islamic finance in Pakistan. At present, it has as many as 80,000 investors that is three times more than the number of shareholders in Islamic banks. The modaraba scam has nothing to do with the regulated modaraba sector and in their own best interest, investors interested in Islamic investing must stay from unregulated investment activities.

The Sarmayakari Markaz in Abbottabad is managed by the Central Depository Company and it already has branch offices of some of the leading investment management companies and brokerage houses.

ایبٹ آباد میں اسلامک فنانس سینٹر کا افتتاح

ملک میں اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ کے لئے تمام سہولتیں مہیا کی جائیں گی: ایس ای سی پی

ایبٹ آباد (مارچ ۷) سکيورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے کمشنر ظفر عبداللہ نے اسلامی سرمایہ کاری کے فروغ کے لئے ایبٹ آباد میں اسلامک فنانس سینٹر کا افتتاح کیا۔ ایس ای سی پی کے چیئرمین کو ویرین کے مطابق ملک میں مضاربہ اور اسلامک فنانس کا دائرہ وسیع کرنے کے جانب ایک اہم قدم ہے۔ وہ جمعرات کو ایبٹ آباد میں اسلامک فنانس سینٹر کے افتتاح کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔

انہوں نے کہا کہ تمام شراکت داروں کی مشاورت کے ساتھ ایس ای سی پی نے مضاربہ کے ریگولیٹری فریم ورک کا جائزہ لیا ہے اور مضاربہ کو شریعت کی اصل روح اور تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لئے سیکچرل اصلاحات کے لئے کانسپٹ پیپر کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے راولپنڈی کے بعد ایبٹ آباد میں بھی اسلامی فنانس سینٹر کے قیام پر مضاربہ ایسوسی ایشن کو سراہا۔ اسلامک فنانس سینٹر، مضاربہ سیکٹر کی جانب سے ایبٹ آباد میں پہلے سے قائم سرمایہ کاری مرکز میں کھولا گیا ہے۔

ظفر عبداللہ نے کہا کہ ملک میں غیر قانونی فنانسنگ اور سود کی حوصلہ شکنی کے لئے اسلامک فنانس اور مضاربہ سینٹرز جو کہ باقاعدہ ریگولیٹڈ سیکٹر ہیں کا پھیلاؤ بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں چار مضاربہ کمپنیوں کی جانب سے مل کر راولپنڈی میں اسلامک فنانس سینٹر کے قیام کا تجربہ بہت کامیاب رہا ہے اور صرف دو ماہ میں اس مرکز سے دو سو انچاس صارفین نے ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے کی سستی فنانسنگ حاصل کی۔ کمشنر ایس ای سی پی نے امید ظاہر کی کہ ایبٹ آباد میں اسلامک فنانس سینٹر کے قیام سے مضاربہ اور دیگر غیر بینکاری مالیاتی سہولتوں کا پھیلاؤ بڑھے گا اور عوام کو شریعت کے مطابق سستی فنانسنگ حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایبٹ آباد میں اسلامک فنانس سینٹر کا قیام اس علاقے میں غیر قانونی طور پر قرض اور فنانس فراہم کرنے کے کاروبار کی حوصلہ شکنی میں اہم کردار ادا کرے گا۔

اس موقع پر مضاربہ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ایاز داؤد نے شرکاء کو بتایا کہ ابتدائی طور پر اس مرکز کے ذریعے ایبٹ آباد، مانسہرہ اور نواحی علاقوں کے عوام کو غیر بینکاری مالیاتی شعبے اور مضاربہ میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بنیادی معلومات اور آگہی فراہم کی جائے گی۔ اس کے بعد جلد ہی عوام کو اسلامک فنانس فراہم کرنے کا آغاز کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اسلامی مالیاتی پروڈکٹس کے فروغ کے لئے ایس ای سی پی کا کردار قابل ستائش ہے۔

ایس ای سی پی کے کمشنر ظفر عبداللہ نے مضاربہ ایسوسی ایشن کی کاوشوں کو سراہا اور اس امید کا اظہار کیا کہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی اسی طرز پر اسلامی مالیاتی سینٹر قائم کئے جائیں گے۔ انہوں نے ملک کے دیگر شہروں اور خاص طور پر چھوٹے قصبوں تک مضاربہ کی رسائی بڑھانے کے لئے ایس ای سی پی کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے مضاربہ ایسوسی ایشن کو دعوت دی کہ وہ پشاور میں کھولے جانے والے سرمایہ کاری مرکز میں بھی اسلامی مالیاتی سینٹر قائم کریں۔ اس موقع پر مضاربہ ایسوسی ایشن کے سینیئر نائب چیئرمین مرتضیٰ احمد علی، سیکٹری جنرل مضاربہ ایسوسی ایشن محمد سمیع اللہ نے بھی خطاب کیا۔